

JUZ 4 PART 1

Surah Al-e-Imran (Verse- 92-164)

Root Words

| Meaning | ROOT WORD | WORD | AYAT |
|------------------------|-----------|----------------|------|
| تم پہنچ سکتے | ن ی ل | تَنَالُوا | 92 |
| حلال | ح ل ل | حِلًّا | 93 |
| گھڑیں / افترا کریں | ف ر ی | أَفْتَرَى | 94 |
| بنایا گیا | و ض ع | وُضِعَ | 96 |
| تم روکتے ہو | ص د د | تَصُدُّونَ | 99 |
| تم اس میں ڈھونڈتے ہو | ب غ ی | تَبْغُونَهَا | |
| کچی / عیب | ع و ج | عَوَجًا | |
| وہ پھیر دیں گے تم کو | ر د د | يَرُدُّوْكُمْ | 100 |
| مضبوط پکڑتا ہے | ع ص م | يَعْتَصِمِ | 101 |
| تم مرنا | م و ت | تَمُوتَنَّ | 102 |
| مضبوط پکڑے رہنا | ع ص م | أَعْتَصِمُوا | 103 |
| رسی | ح ب ل | بِحَبْلِ | |
| پھر تم ہو گئے | ص ب ح | فَأَصْبَحْتُمْ | |
| ایک گھڑے کے | ح ف ر | حُفْرَةٍ | |
| تو اس نے بچا لیا تم کو | ن ق ذ | فَأَنْقَذَكُمْ | |
| جو دعوت دیں | د ع و | يَدْعُونَ | 104 |
| اور جو روکیں | ن ه ی | وَيَنْهَوْنَ | |
| برائی | ن ك ر | الْمُنْكَرِ | |

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|-----|
| روشن ہوں گے | ب ی ض | تَبَيُّضٌ | 106 |
| ہمیشہ رہنے والے ہیں | خ ل د | خُلْدُونَ | 107 |
| لوٹائے جاتے ہیں | ر ج ع | تُرْجَعُ | 109 |
| نکالی گئی | خ ر ج | أُخْرِجَتْ | 110 |
| اذیت | أ ذ ی | أَذَى | 111 |
| ذلت | ذ ل ل | الذِّلَّةُ | 112 |
| وہ پائے گئے | ث ق ف | تُقْفَوُا | |
| محتاجی / ناداری | س ک ن | الْمَسْكَنَةُ | |
| انہوں نے نافرمانی کی | ع ص ی | عَصَوْا | |
| وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں | س ر ع | يُسْرِعُونَ | 114 |
| ہوا | ر و ح | رِيحٍ | 117 |
| رازداں / دلی دوست | ب ط ن | بِطَانَةٌ | 118 |
| کو تاہی / کمی کرتے تمہاری | أ ل و | يَأْلُونَكُمْ | |
| ظاہر ہو چکی ہے | ب د و | بَدَتْ | |
| ان کے سینے | ص د ر | صُدُورُهُمْ | |
| انگلیاں | ن م ل | الْأَنَامِلَ | 119 |
| غصہ | غ ی ظ | الْغَيْظَ | |
| آپ صبح سویرے نکلے | غ د و | غَدَوْتَ | 121 |
| آپ متعین کرنے لگے | ب و أ | تُبَوِّئُ | |
| مورچوں پر / ٹھکانے پر | ق ع د | مَقَاعِدَ | |
| قصد کیا / ارادہ کیا | ه م م | هَمَّتْ | 122 |
| وہ دونوں بزدلی دکھائیں | ف ش ل | تَفْشَلَا | |

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|-----|
| مدد کی تمھاری | ن ص ر | نَصَرَكُمْ | 123 |
| کمزور تھے | ذ ل ل | أَذَلُّهُ | |
| مدد کرئے تمھاری | م د د | يُمِدُّكُمْ | 124 |
| نشان دار | س و م | مُسَوِّمِينَ | 125 |
| اور تاکہ مطمئن ہو جائیں | ط م ن | وَلِتَطْمَئِنَّ | 126 |
| تاکہ کاٹ دے / ہلاک کر دے | ق ط ع | لِيَقْطَعَ | 127 |
| انھیں ذلیل کرئے | ک ب ت | يَكْبِتُهُمْ | |
| سود | ر ب و | الرِّبَا | 130 |
| بڑھا چڑھا کر | ض ع ف | مُضْعَفَةً | |
| تیار کی گئی ہے | ع د د | أُعِدَّتْ | 131 |
| خوشی | س ر ر | السَّرَّاءِ | 134 |
| تکلیف | ض ر ر | الضَّرَّاءِ | |
| احسان کرنے والوں سے | ح س ن | الْمُحْسِنِينَ | |
| وہ اصرار کرتے | ص ر ر | يُصِرُّوْا | 135 |
| بہتی ہیں | ج ر ی | تَجْرِي | 136 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|-----|
| اجر | أجر | أَجْرٌ | |
| عمل کرنے والوں کا | عمل | الْعَمَلِينَ | |
| گزر چکے | خلو | خَلَّتْ | 137 |
| کئی طریقے | سنن | سُنُنٌ | |
| پھر دیکھو | نظر | فَانظُرُوا | |
| نصیحت | وعظ | مَوْعِظَةً | 138 |
| نہ تم کمزور پڑو | وہن | تَهِنُوا | 139 |
| غالب رہو گے | علو | الْأَعْلُونَ | |
| کوئی زخم | قرح | قَرْحٌ | 140 |
| ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں انہیں | دول | نُذَاوِلْهَا | |
| تاکہ خالص کر دے | محص | لِيُمَحِّصَ | 141 |
| خیال (گمان) کیا تم نے | حسب | حَسِبْتُمْ | 142 |
| تم ملو اس سے | لقى | تَلَقَّوْهُ | 143 |
| وہ مرجائیں | موت | مَاتَ | 144 |
| اپنی ایڑیوں پر | عقب | أَعْقِبْكُمْ | |

| | | | |
|------------------------------|-------|----------------|-----|
| مقرر وقت | ا ج ل | مُوجَّلًا | 145 |
| بدلہ | ث و ب | ثَوَابَ | |
| پہنچا نہیں | ص و ب | أَصَابَهُمْ | 146 |
| اور زیادتیاں ہماری | س ر ف | إِسْرَافَنَا | 147 |
| تم انہیں قتل کر رہے تھے | ح س س | تَحْسُونَهُمْ | 152 |
| پھر بزدلی دکھائی تم نے | ف ش ل | فَشِلْتُمْ | |
| نافرمانی کی تم نے | ع ص ی | عَصَيْتُمْ | |
| اس نے دکھایا تمہیں | ر ا ی | أَرَاكُمْ | |
| تم چڑھے جا رہے تھے | ص ع د | تُصْعِدُونَ | 153 |
| تو اس نے دیا تمہیں | ث و ب | فَاتَّبَعُكُمْ | |
| ایک اونگھ | ن ع س | نُعَاسًا | 154 |
| ڈھانپ لیا اس نے | غ ش ی | يَغْشَى | |
| فکر میں ڈالا انہیں | ہ م م | أَهَمَّتَهُمْ | |
| وہ ظاہر کر رہے تھے | ب د و | يُبْدُونَ | |
| اپنے سونے (موت) کے مقامات کے | ض ج ع | مَضَاجِعِهِمْ | |

| | | | |
|------------------------|-------|-----------------|-----|
| آمنے سامنے ہوئیں | ل ق ی | الَّتَقَى | 155 |
| پھسلا یا تھا انھیں | ز ل ل | أَسْتَزَلُّهُمْ | |
| بہت بردباد ہے | ح ل م | حَلِيمٌ | |
| غازی / لڑنے والے | غ ز و | عُزَّى | |
| تم اکٹھے کیے جاؤ گے | ح ش ر | تُحْشَرُونَ | 158 |
| آپ نرم رہے | ل ی ن | لِنْتَ | 159 |
| سخت | غ ل ظ | غَلِيظٌ | |
| البتہ وہ منتشر ہو جاتے | ف ض ض | لَأَنْفِضُوْا | |
| آپ کے آس پاس | ح و ل | حَوْلِكَ | |
| ان سے مشورہ لیا کرو | ش و ر | شَاوِرْهُمْ | |
| پختہ ارادہ کریں آپ | ع ز م | عَزَمْتَ | |
| وہ چھوڑ دے تمہیں | خ ذ ل | يَخْذُلْكُمْ | 160 |
| وہ خیانت کرے | غ ل ل | يَغُلُّ | 161 |
| رضا | ر ض و | رِضْوَانٌ | 162 |
| پلٹے | ب و ا | بَاءٌ | |
| ساتھ ناراضگی کے | س خ ط | بِسَخَطٍ | |